



سوال

(182) حیض شروع ہونے سے پہلے زرد رنگ کی رطوبت آنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

حیض شروع ہونے سے دو دن پہلے زرد رنگ کی رطوبت آنے لگے تو اس کا کیا حکم ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگر یہ زرد رطوبت حیض سے پہلے ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے (عورت پاک ہی ہے)۔ کیونکہ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ”ہم زرد اور میلے رنگ کی رطوبت کو کچھ نہ سمجھا کرتی تھیں۔“ (صحیح بخاری، کتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض، حدیث 326۔ سنن ابن ماجہ: کتاب الطهارة وسننھا، باب ما جاء في الحائض تری بعد الطهر الصفرة والكدرة، حدیث: 647) اور سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ ”ظہر کے بعد زرد رنگ کی رطوبت کو کچھ نہ سمجھتی تھیں۔“ (سنن ابی داؤد، کتاب الطهارة، باب في المرأة تری الصفرة والكدرة بعد الطهر، حدیث: 307۔ المستدرک للحاکم: 1/282، حدیث: 621) بالخصوص جب یہ رطوبت حیض سے بالکل جدا اور نمایاں ہو تو یہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر عورت یہ محسوس کرے کہ یہ حیض کی ابتداء ہے تو پھر اسے توقف کرنا چاہیے حتیٰ کہ پاک ہو جائے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

احکام و مسائل، خواتین کا انسائیکلو پیڈیا

صفحہ نمبر 199

محدث فتویٰ